

بَابِي الشَّمُوسُ الْجَانِحَاتُ غَوَارِبًا
أَلَا تَأْتِي الْقُبُورَ قُبُورَهُنَّ الْأَخِذَاتُ مِنَ الْقُبُورِ مَغَارِبًا

مارا باوا سی میں وہ افتابو پر قربان چھوں جد غروب تھا وانی تیاری ماچھے ، جد افتابو قبرونی
مغرب ما غروب تھا نارچھے .

مَا غَابَ يَوْمَ الطَّفِّ شَمْسُ نَهَارِهِمْ
حَتَّى يَتْرُبَ الطَّفَّ عُدُنَ غَوَارِبًا

کر بلاء ما عاشوراء نادن نا افتاب غروب نہ تھیا حتی کہ طف فی مٹی ما یدر سگلا افتابو غروب
تھنی گیا .

كَانُوا وَهُمْ لِلْخَلْقِ مَوْضِعُ بَجْحَمِهِمْ
فَعَدَّوْا هُمْ لِلظَّالِمِينَ مَأْرِبًا

یہ سگلا وہ صاحبو ہتا جد نے تمام خلق کامیابی حاصل کروا واسطے قصد کرتا تھا ، ہوئے یہ
سگلا فی وہ حالتہ تھنی گئی چھے کہ ظلم کرنا دشمنو پوتانی ظلم فی غرضو نے پوری کروا واسطے
یہ سگلا نے نشانو بنایا چھے .

لَهْفِي عَلَى تِلْكَ الْمَنَازِلِ لِلْمُدَى
أَقْوَتُ وَكَانَتْ أَهْلَاتِي دَائِبًا

عجب مارو افسوس چھے وہ ہدایۃ نامنازل نا اوپر۔ جد منازل اہنا و سناراؤسی ویران تھنی
گئی ، خالی تھنی گئی ، دران حال کہ یہ ہمیشہ اباد رہتی تھی .

اَسْفِي عَلَى كَهْفِ الْمَصَابِ عَنِ الرَّدَى
قَدَبَاتٍ رَهْنًا فِي أَكْفٍ مَصَابِيَا

عجب مارو پستاؤ چھ وہ کہف (مولانا الامام الحسين ص) پر جہنی طرف مصیبت زدہ ہلاکی
سی اسرو لیتا تھا، ہوئے یہ کہف خود مصیبت ناہاتھو مارہن تھی گیا چھ۔ (رہن: گروی
موکی ہوی چیز، جہنے حَبَس کروا ماوے)۔

يَا لَيْتَ فَاطِمَةَ رَأَتْهُ مُجَدَّلًا
كَالْبَنْرِ بْنِ النَّعْمِ فِي صُحْبِهِ كَالْبَدْرِ بَيْنَ كَوَاكِبَا

کاش کہ مولانا فاطمہ الزہراء ص امام حسین ص نے آپ نا اصحاب نادر میان پچھڑایا ہوا دیکھی
لیتا، گویا کہ آپ ستاراؤ نادر میان چندرماں چھ۔

شَقَّ الْفُؤَادَ ظَمًا شَفَاهِمُ الَّتِي
كَانَتْ لِعَمْرِي لِلْعُلُومِ مَشَارِبَا

یہ سگلا نا ہونٹو نی پیاس نی شدہ۔ دل نے چاک کری دے چھ، جہونٹو۔ ماری بقاء ناقص
۔ علوم واسطے مشارب ہتا۔ (مشارب: پانی پیوانی جگہ)۔

يَا حَسْرَةً لِدِمَائِ آلِ مُحَمَّدٍ
طُلَّتْ هُنَالِكَ إِذْ جَرَيْنِ سَوَاكِبَا

عجب ماری حسرت لے حزن چھ۔ آل محمد نا وہ خون پر جہوہاں طف ماجاری تھیو تورا نگاں
تھی گویا، اہنو کوئی قصاص۔ یا۔ دیتہ لیو اماند ایو۔

شَلَّتْ يَدَا شِمْرِ اللَّعِينِ فَإِنَّهَا
هَدَمَتْ مِنَ الْإِيمَانِ رُكْنًا رَاسِبًا

شمر لعین نا بے ہاتھ سو کھائی جائی!

یہ بے ہاتھو یہ ایمان نا ایک مضبوط رکن نے توڑی نا کھو .

لَا دَسَّ دَسَّ الطَّفِّ إِنَّ قَنَاہَا
لِرِجَالِ أَهْلِ الْبَيْتِ كُنَّ مَسْخِبًا

خدا طف نو بھلو نہ کر جو! یہ طف فی ٹیکریو اہل بیت نامردو واسطے خون ریرا وانی جگہ و
تھنی گئی .

يَا ضَيْعَةً لِنِسَائِهِ وَقِفْنَ فِي
وَسْطِ الْعُدَاةِ وَلَمْ يَجِدْنَ جَلَابِيَا

مام حسین صع نا حرم فی عجب مظلومیہ چھے ، یہ سگلا نے دشمنو نا وچما کھڑا کرو اما ایا ، وہ
حال ما کہ یہ سگلا نا نزدیک کوئی چادر تھی .

لِحَاسِرَاتِ رُؤُوسِهِنَّ بِمَجْلِسِ
نَجَّسِ ابْنِ فَاعِلَةَ الْخَبِيثِ مَنَاسِبًا

یہ ناپاک دشمن (یزید) فی مجلس ما یہ حرم ناماتھا و کھلا ہوا چھے ، جہا ہوی ناپاک بد عمل
لرناری بٹیر (ہند) نو چھو کرو ہتو جہ عملو خباثہ فی طرف منسوب تھائی چھے .

صَلَّىٰ اِلٰهَ عَلَيْهِمْ مِنْ فَتْيَةٍ كَثُرُوا وَقَلُّوا عِدَّةً وَمَنَاقِبًا

خدا تعالیٰ یرسگلا اهل بیت نا او پر صلوات پڑھو، یرسگلا وہ نوجوانو چھے جہ گنتی ما کم چھے
مگر فضائل ما گنا چھے .

فَبِحَقِّمُمْ يَا رَبِّ اسْأَلُ أَنْ تُطَيِّرَ
لِي بَقَاءَ نَجْمِ الدِّينِ فَيُنَاوِرَتْنَا
سَيْفِ

رَبِّ اسْأَلُ أَنْ
تُطَيِّرَ لِي
بَقَاءَ نَجْمِ
الدِّينِ

یرسگلا ناحق سی لے مارا رب! میں سوال کروں چھوں کہ تو نجم الدین مولیٰ (سیف الدین
مولیٰ) نی بقاء نے ہمیشہ ہمارا درمیان دراز لے دراز کر جے .